



کووڈ-19 کی عالمی وباء کے دوران برامپٹن میں ایسٹر ویکینڈ 2021

برامپٹن، آن (25 مارچ 2021) - اس سال گڈ فرائیڈے بروز جمعہ مورخہ 2 اپریل کو اور ایسٹر منڈے بروز پیر مورخہ 5 اپریل کو منایا جا رہا ہے۔

تمام ضروری اور فوری نوعیت کی خدمات، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، ٹریفک سروسز، ہائی لاء انفورسمنٹ، روڈ آپریشنز، سیکورٹی سروسز، ہماری کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کے لیے معمول کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گی۔

رہائشی کسی قسم کے سوالات کے لیے 311 یا 905.874.2000 (برامپٹن سے باہر) پر کال کر سکتے ہیں یا برامپٹن 311 ایپ (ایپ اسٹور یا گوگل پلے پر دستیاب) استعمال کر سکتے ہیں، www.311brampton.ca ملاحظہ کر سکتے ہیں یا 311@brampton.ca پر ای میل کر سکتے ہیں۔ ہم سٹی آف برامپٹن یا ریجن آف پبلک کے ہر قسم کے معاملات کے لیے 24/7 دستیاب ہیں، بشمول کووڈ-19 کے متعلق کسی بھی قسم کے استفسارات۔ مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/covid19 پر جائیں۔

برامپٹن ٹرانزٹ

برامپٹن ٹرانزٹ 2 سے 5 اپریل کے درمیان خدمات کے درج ذیل درجات پر کام کرے گا۔

جمعہ، 2 اپریل (گڈ فرائیڈے)

اتوار / چھٹی کے شیڈول پر کام

ٹرمینلز پر کسٹمر سروس کاؤنٹرز بند ہیں۔ کنٹیکٹ سنٹر صبح 9 تا رات 6 بجے تک معاونت کے لیے دستیاب رہے گا۔

ہفتہ، 3 اپریل

ہفتے کے دن کے شیڈول پر کام

ٹرمینلز پر کسٹمر سروس کاؤنٹرز عمومی اوقات کار کے دوران کھلے رہیں گے۔ کنٹیکٹ سنٹر صبح 7 تا رات 7 بجے تک معاونت کے لیے دستیاب رہے گا۔

اتوار، 4 اپریل (ایسٹر سنڈے)

اتوار / چھٹی کے شیڈول پر کام۔

ٹرمینلز پر کسٹمر سروس کاؤنٹرز بند ہیں۔ کنٹیکٹ سنٹر صبح 9 تا رات 6 بجے تک معاونت کے لیے دستیاب رہے گا۔

پیر، 5 اپریل (ایسٹر منڈے)

ہفتے کے عام دنوں کے شیڈول پر کام۔

ٹرمینلز پر کسٹمر سروس کاؤنٹرز عمومی اوقات کار کے دوران کھلے رہیں گے۔ کنٹیکٹ سنٹر صبح 7 تا رات 9 بجے تک معاونت کے لیے دستیاب رہے گا۔

مزید معلومات کے لیے، کال سنٹر کو 905.874.2999 پر کال کریں یا www.bramptontransit.com ملاحظہ کریں۔

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

سٹی مسافروں پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جتنا ممکن ہو جسمانی فاصلہ برقرار رکھیں۔ سواروں کو اس بات کی بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنا ذاتی بینڈ سینٹائزر، مثلاً بینڈ سینٹائزر یا وائپس،



ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو قریبی ترین کووڈ-19 اسپسمنٹ سائٹ سے ٹیسٹ کروائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔

پبلک ہیلتھ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق، مسافروں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ بسوں اور ٹرمینلز پر ایسے اچھی طرح فٹ ہونے والے نان میڈیکل ماسک لازمی ہیں جو آپ کی ناک، منہ اور ٹھوڑی کو ڈھانپ سکتے ہوں۔ خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجنسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔

باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے www.brampton.ca/covid19 ملاحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے www.bramptontransit.com پر جائیں یا ٹوئٹر پر [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

برامپٹن ریکرییشن

بنی ایگسائٹمنٹ

اس ایسٹر پر محفوظ بنی ایگسائٹمنٹ کے ساتھ مزے میں کود پڑیں! 29 مارچ سے شروع کرتے ہوئے ایک کرافٹ کٹ حاصل کریں اور ایک رنگین گملا بنانے کے لیے آن لائن ٹوٹوریل پر عمل کریں، ایک ورچوئل ایگ ہنٹ میں حصہ لیں اور رنگ بھرنے کی سرگرمیاں ڈاؤن لوڈ کریں۔

کرافٹ کٹ کی بلا رابطہ، سڑک کنارے پک اپ 31 مارچ اور 1 اپریل کو دن 3:30 سے رات 7 بجے تک کیسی کیمپ بیل کمیونٹی سینٹر، چنگواکوسی پارک سکی چیلٹ، گور میڈوز کمیونٹی سنٹر اور ساؤتھ فلچرز سپورٹس پلکس میں دستیاب ہے۔ براہ کرم پک اپ کے دوران اس جگہ کے نشانات و علامات اور تحفظ کی تمام ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ دستکاری کی کٹیں پہلے آئیے، پہلے پائیے کی بنیاد پر دستیاب ہیں اور اختتام تک فی خاندان ایک عدد کٹ جاری کی جائے گی۔

بنی ایگسائٹمنٹ کی مزید سرگرمیوں کے متعلق مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/recreation ملاحظہ کریں۔

گھر پر تفریح

تندرستی اور چیزیں بنانے کے آن لائن ٹوٹوریلز کے ساتھ گھر پر فعال اور مصروف رہیں! پورے جسم کی ورزش آزمائیں، اور یوگیا کے دل بنانا سیکھیں، اپنی خطاطی کی مہارتوں کی مشق کریں اور مزید۔ www.brampton.ca/recathome پر کئی اقسام کی ریک ایٹ ہوم سرگرمیوں تک رسائی حاصل کریں۔

سٹی آف برامپٹن کے تفریحی سنٹرز عارضی طور پر بند ہیں اور کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے صوبائی اقدامات کے نتیجے میں تربیت کاروں کے زیر قیادت بالمشافہ پروگرام اور خدمات معطل ہیں۔ ورچوئل اور بیرونی تفریحی پروگراموں اور خدمات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/recreation ملاحظہ کریں۔

برامپٹن لائبریری

لائبریری کی تمام شاخوں میں شاخ کے اندر اور سڑک کنارے پک اپ کی خدمات بروز جمعہ، 2 اپریل (گڈ فرائڈے) کو دستیاب نہیں ہوں گی۔

ہماری ڈیجیٹل لائبریری ملاحظہ کرنے کے لیے کسی بھی وقت [برامپٹن لائبریری کی ویب سائٹ](http://www.brampton.ca/lib) ملاحظہ کریں۔ یہاں آپ کو اپنے لائبریری کارڈ کے ذریعے ڈیجیٹل ای بکس، ای آڈیو بکس، ٹی وی اور مووی اسٹریمنگ اور آن لائن تعلیم، فنون اور کرافٹس اور مزید تک مفت رسائی ملے گی۔ [برامپٹن لائبریری کارڈ حاصل کرنے کے لیے](http://www.brampton.ca/lib)، براہ کرم یہاں کلک کریں۔ تمام شاخوں میں 24 گھنٹے چلنے والے بیرونی ڈراپ باکسز کے ذریعے اپنی ادھار لی جانے والی چیزوں کو لچکدار طریقے سے واپسی سے لطف اندوز ہوں۔

آئیں رابطے میں رہیں! ہماری ای میل اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں اور ہمیں فیسبک، ٹوئٹر اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔



برامپٹن اینیمل سروسز
برامپٹن اینیمل شیلٹر گڈ فرائیڈے 2 اپریل، ایسٹر سنڈے 4 اپریل اور ایسٹر منڈے 5 اپریل کو بند رہے گا۔ شیلٹر بروز ہفتہ، 3 اپریل کو صرف ایوانٹمنٹ کے ذریعے صبح 10 تا شام 4 کھلا رہے گا۔

اینیمل کنٹرول پیر تا جمعہ صبح 7 تا رات 10 بجے تک اور بروز ہفتہ اور اتوار اور چھٹیوں کے دنوں میں دن 8 تا شام 6:30 بجے تک سڑکوں پر موجود ہوتا ہے اور صرف درج ذیل کالوں پر ردعمل دے گا:

- بیمار/زخمی/جارحانہ گھریلو جانور اور جنگلی جانور کے اٹھانے کے لیے
- جارحانہ جانور
- آزاد بھاگنے والا کتا
- کتے کے کاٹنے کی تحقیق
- پکڑے جانے والے آوارہ کتے کو اٹھانا
- کسی مردہ جانور کو اٹھانا

اس اوقات کے علاوہ، اینیمل کنٹرول صرف ہنگامی حالات کا ردعمل دے گا۔

پیل پبلک ہیلتھ کی ایسٹر ویکینڈ کے لیے یاددہانیاں

ایسٹر کی چھٹی پر صرف ان لوگوں کے ساتھ جمع ہو کر، جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اگرچہ کہ ویکسین کی فراہمی جاری ہے، ہمیں احتیاط نہیں چھوڑنی چاہیے اور پبلک ہیلتھ کے مشورے پر عمل جاری رکھنا چاہیے۔ یہ اقدامات وائرس کے خلاف ہمارا بہترین دفاع ہیں۔ اپنے گھر سے باہر رہنے والے خاندان کے لوگوں اور دوستوں کے لیے تصاویر بنائیں اور ان کے ساتھ ورجنل کالز کا بندوبست کریں تاکہ آپ کے روابط اور جسمانی فاصلہ بھی برقرار رہے۔ پھیلاؤ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اپنی عبادت گاہ کو ورجنل طور پر اجتماع کا کہیں۔ اگر آپ بالمشافہ طور پر جمع ہوتے ہیں، تو براہ کرم مذہبی رسومات کے لیے اجتماع کی حدود پر عمل کریں۔

-30-

سٹی آف برامپٹن میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

ریجن آف پیل میڈیا کنٹیکٹ

ایشلی ہاکنز

کمیونیکیشنز اسپیشلسٹ – پبلک ہیلتھ

ریجن آف پیل

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca